



قائد اعظم ٹرافی سیکنڈ ایون ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ مکمل

کراچی، 25 اکتوبر 2020ء:

کے سی سی اے اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں سندھ نے ابرار احمد کی عمدہ باؤلنگ کی بدولت خیبر پختونخوا کو 163 رنز سے ہرا دیا۔ 265 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کے پی کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 101 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کے پی کے صرف 3 بلے باز ڈبل فگرز میں داخل ہو سکے۔ پہلی اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کرنے والے ابرار احمد نے میچ میں مجموعی طور پر 9 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ عامر علی نے 5 اور شاہنواز دھنی نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل سندھ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز میں مقررہ 83 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 270 رنز بنائے تھے۔ جواب میں کے پی کی ٹیم 139 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ 131 رنز کی سبقت سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سندھ کی پوری ٹیم 133 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔

ٹی ایم سی گراؤنڈ کراچی میں ناردرن اور سنٹرل پنجاب کے درمیان کھیلا گیا تین روزہ میچ ڈرا ہو گیا۔ میچ کے آخری روز سنٹرل پنجاب کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف ملا تھا تاہم وہ میچ کے اختتام پر 43 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز ہی بنا سکی۔ عرفان خان نیازی نے 60 اور عمران ٹوگر نے 49 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں 3 وکٹیں حاصل کرنے والے ناردرن کے اسپنر رضا حسن نے دوسری اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل 116 رنز کے خسارے سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی ناردرن کی ٹیم نے 98 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے تھے۔ پہلی اننگز میں سنٹرل پنجاب نے ناردرن کے 128 رنز کے جواب میں 244 رنز بنائے تھے۔

اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں سدرن پنجاب اور بلوچستان کے درمیان کھیلا گیا میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ 118 رنز کے خسارے سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سدرن پنجاب کی ٹیم نے میچ کے آخری روز اپنی دوسری اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز بنائے تھے کہ دونوں کپتانوں کی رضامندی سے امپائرز نے میچ کو جلد ختم کر دیا۔ اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والی سدرن پنجاب کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 196 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ جواب میں اکبر الرحمن کی سنچری

کی بدولت بلوچستان نے اپنی پہلی اننگز میں مقررہ 83 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 314 رنز بنائے تھے۔

ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21:

- 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 first-class matches. For schedule, click [here](#)
- The event will be played under [Covid-19 protocols](#) at four venues in Karachi, namely National Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports Complex.
- Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab
- The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.
- The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect PKR5million
- PKR500,000 will be handed out to tournament's top-performers and the player of the final will get PKR50,000
- Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click [here](#) to read more

As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#), to read more about the three-year agreement

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4